

تعلقات عامہ دفتر

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

November 25, 2022

پریس ریلیز

شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی پچاسویں سالگرہ فروغ اردو کے بڑے وژن کا پیش خیمہ ہے: سید شاہد مہدی  
شعبہ اردو کے پچاس سال مکمل ہونے پر باوقار افتتاحی تقریب کا انعقاد

”فروغ اردو میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی خدمات غیر معمولی ہیں۔ بالخصوص ترجمہ اور ادب اطفال میں معماران جامعہ کے کارناموں کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ توجہ طلب امر یہ ہے کہ یہ سبھی لوگ یورپ کی عظیم دانش گاہوں کے فیض یافتہ تھے اور اردو سے بطور سبکٹ ان کا براہ راست تعلق نہیں تھا۔“ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق وائس چانسلر جناب سید شاہد مہدی نے ان خیالات کا اظہار شعبہ اردو کے پچاس سال مکمل ہونے پر سی آئی ٹی ہال، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی باوقار افتتاحی تقریب میں صدارتی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انھوں نے شعبہ اردو کو مبارک دیتے ہوئے کہا کہ ”نصف صدی کے سفر کی تکمیل پر فروغ اردو کے لیے ایک بڑا وژن ہی شعبے کی تاریخ کو با معنی بنا سکتا ہے۔“

مہمان خصوصی معروف ادیب و دانشور پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی نے کہا کہ ”یہ میرے لیے نہایت جذباتی لمحہ ہے چونکہ اس موقع پر میں خود کوسات دہائی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں اور بجا طور پر ناسٹلجیا کا شکار ہو جاتا ہوں۔ جامعہ کا سفر ایک معنی میں اردو کا سفر بھی ہے۔ یہاں کے معماران نے اردو زبان و تہذیب کو اپنے اندر رچا بسا لیا تھا۔ یہ موقع شعبہ اردو کے لیے یادگار ہے اور میں خود کو اسی شعبے کا حصہ سمجھتا ہوں۔“

مہمان اعزازی قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر پروفیسر شیخ عقیل احمد نے پر جوش تہنیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت جامعہ کا شعبہ اردو ہندوستان کے تمام اردو شعبوں میں سب سے نمایاں ہے۔ انھوں نے وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر کے بڑے وژن کی پذیرائی کرتے ہوئے کہا کہ ان کی غیر معمولی قیادت کے طفیل آج جامعہ ملیہ اسلامیہ کو ایک اعلیٰ سطح کی یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے۔ انھوں نے کونسل کی جانب سے شعبہ اردو کے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کی۔

مہمان اعزازی ڈین فیکلٹی برائے انسانی علوم والسنہ پروفیسر محمد اسد الدین نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس شعبے سے ذاتی طور پر غیر معمولی فیض حاصل ہوا ہے۔ خصوصاً پروفیسر گوپی چند نارنگ، پروفیسر شمس الرحمن فاروقی، پروفیسر

شمیم حنفی، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین کی وابستگی اس شعبے کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔

افتتاحی تقریب میں خصوصی مقرر اور اردو فارسی کے ممتاز عالم پروفیسر شریف حسین قاسمی نے کہا کہ ”شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ کا علمی مقام و مرتبہ مسلم ہے۔ انھوں نے اردو فارسی کے تہذیبی رشتے پر وقیح خطبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اردو اور فارسی کے درمیان لسانی اور تہذیبی رشتوں کی جڑیں نہایت گہری اور مستحکم ہیں۔ اردو زبان کے ذریعے جو زندگی کے ہمہ گیر مظاہر ظہور پذیر ہوئے اس میں فارسی زبان و ادب کا کردار بے حد اہم اور موثر رہا ہے۔

صدر شعبہ پروفیسر احمد محفوظ نے مہمانان کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ کا علمی اور ادبی ورثہ نہایت وقیح اور ثروت مند ہے۔ انھوں نے شعبے کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس شعبے کا قیام پروفیسر محمد مجیب کے دور میں ۲۵ نومبر ۱۹۷۲ کو عمل میں آیا اور سب سے پہلے صدر شعبہ پروفیسر تنویر احمد علوی مقرر کیے گئے۔ ان کے گراں قدر علمی مقام و منزلت سے سبھی واقف ہیں اور ان کے بعد سے لے کر آج تک نہایت ممتاز شخصیات اس شعبے سے منسلک رہی ہیں۔

اس یادگار موقع پر شعبے کے سبک دوش اساتذہ پروفیسر قاضی عبید الرحمن ہاشمی، پروفیسر شمس الحق عثمانی، پروفیسر خالد محمود، پروفیسر شہناز انجم، پروفیسر وہاج الدین علوی، پروفیسر عبدالرشید، پروفیسر شہپر رسول اور ڈاکٹر سہیل احمد فاروقی کی خدمت میں گلستہ، شال اور ایک مومنٹو پیش کیا گیا۔ تقریب میں پروفیسر شہزاد انجم، پروفیسر خالد جاوید، پروفیسر سرور الہدیٰ اور ڈاکٹر سید تنویر حسین نے گلستے سے مہمانان کا خیر مقدم کیا۔ اجلاس کی نظامت ڈاکٹر محمد مقیم نے کی۔ پروگرام کا آغاز ڈاکٹر شاہ نواز فیاض کی تلاوت سے ہوا جب کہ اس کا اختتام تقریبات کے کنوینر پروفیسر ندیم احمد کے اظہار تشکر پر ہوا۔ اس موقع پر پروفیسر ابن کنول، پروفیسر تسنیم فاطمہ، ڈاکٹر محمد ادریس، ڈاکٹر عمیر منظر، پروفیسر عمران احمد عندلیب، ڈاکٹر شاہ عالم، ڈاکٹر خالد مبشر اور ڈاکٹر مشیر احمد کے علاوہ شعبے کے اساتذہ، ریسرچ اسکالرز اور طلباء و طالبات موجود تھے۔

تصویر میں دئیں سے بائیں:

ڈاکٹر محمد مقیم، پروفیسر احمد محفوظ، پروفیسر شریف حسین قاسمی، پروفیسر شیخ عقیل احمد، جناب سید شاہد مہدی، پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی، پروفیسر محمد اسد الدین اور پروفیسر ندیم احمد

تعلقات عامہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی



شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ

50 سالہ  
1972 2022

ہفتادہ

پروفیسر نجمہ اختر

مقام: آغا خان





# شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پچاس سال

افتتاحی اجلاس

۱۹۷۲  
۲۰۲۲

۲۵  
نومبر

تاریخ: ۲۵ نومبر ۲۰۲۲ | بوقت ۱۰:۳۰ بجے صبح



بمقام: CIT Hall, Jamia Millia Islamia, New Delhi - 110025 | جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی



پروفیسر محمد اسد الدین

پروفیسر صدیق الرحمن ندوای

جناب سید شاہد مہدی

پروفیسر شیخ عقیل احمد

پروفیسر شریف حسین قاسمی

پروفیسر احمد محفوظ